

16 نومبر 2018

## برامپٹن کی عمر دوستانہ حکمت عملی مرتب کرنے میں اپنی رائے دیں

برامپٹن، آن - 36.5 سال کی اوسط عمر کے ساتھ، برامپٹن کینیڈا کے نوجوان ترین بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ مگر اس کی زیادہ عمر والی آبادی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے - سٹیٹسٹکس کینیڈا کے مطابق، برامپٹن کی +50 عمر کی آبادی 2011 اور 2016 کے درمیان 40 فیصد بڑھ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ برامپٹن کو عمر کے تمام مرحلوں کے لوگوں کے لیے رہنے کی ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے سٹی ایک عمر دوستانہ حکمت عملی تیار کر رہا ہے۔

برامپٹن کے 2040 ویژن کی معاونت میں ایک کلیدی پیش قدمی، عمر دوستانہ حکمت عملی رہائشیوں کو ان خدمات اور سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے میں مدد فراہم کرے گی، جو انہیں صحت مند رہنے، حفاظت سے عمر کے اگلے حصوں میں داخل ہونے اور اعلیٰ معیار زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے درکار ہیں۔ یہ ان کلیدی نکات پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جنہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے عمر دوستانہ کمیونٹیوں کی وضاحت کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، بشمول عوامی ذرائع آمدورفت، رہائش، سرکاری عمارتیں اور بیرونی مقامات، ملازمت، سماجی شمولیت اور کمیونٹی سروسز۔

سٹی ایسا اکیلے نہیں کر سکتا - ایک قابل عمل حکمت عملی تیار کرنے کے لیے عوامی رائے اہم ہے۔ برامپٹن کے تمام شہریوں کے لیے اپنی رائے دینے کے کئی طریقے ہیں۔

### کسی ورکشاپ میں حصہ لیں۔

سٹی تین ورکشاپس کا انعقاد کر رہا ہے، جس میں رہائشی اس بارے میں مربوط ہو سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ برامپٹن زیادہ عمر دوستانہ کیسے ہو سکتا ہے۔

بروز جمعرات، 29 نومبر  
شام 6 - رات 8  
ماؤنٹ پلیزنٹ کمیونٹی ڈرائیو سنٹر  
100 کمیونٹی ڈرائیو

بروز پیر، 26 نومبر  
شام 6 - رات 8  
گور میڈوز کمیونٹی سنٹر  
10150 دی گور روڈ

بروز پیر، 19 نومبر  
صبح 10 - دن 12  
چنگواکوسی پارک سکی چیلنڈ  
9050 برامیلا روڈ

### سروے میں حصہ لیں۔

www.brampton.ca/agefriendly ملاحظہ کریں یا برامپٹن لائبریری کی کسی بھی شاخ سے اس کی تحریری نقل حاصل کریں۔ یہ سروے مورخہ 7 دسمبر تک دستیاب رہے گا۔

### ٹیم سے براہ راست رابطہ کریں۔

اپنے خیالات [agefriendly@brampton.ca](mailto:agefriendly@brampton.ca) پر ای میل کریں یا 905.874.2054 پر کال کریں۔

### منتظر رہیں!

آنے والے مہینوں میں اس عمل میں شامل ہونے کے مزید مواقع بھی میسر ہوں گے، بشمول جنوری 2019 میں ایک سینئرز فورم کا انعقاد۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca/agefriendly](http://www.brampton.ca/agefriendly) ملاحظہ کریں۔

### اقتباس

"نسلی پس منظر اور عمر کے حوالے سے برامپٹن کا تنوع اس کی کلیدی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سٹی زندگی گزارنے کا ایک ایسا تجربہ فراہم کرے، جو ہمارے رہائشیوں کی خواہشات اور ضروریات کی عکاسی کرتا ہو، عوام کی رائے سننا ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ مجھے کونسل میں اس عمر دوستانہ حکمت عملی کو شروع کرنے میں خوشی محسوس ہوئی اور مجھے اس کو عوامی رائے کے مرحلے تک پہنچنا دیکھنے پر فخر ہے۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ آنے والی ورکشاپس میں حصہ لیں اور یقینی بنائیں کہ ان کی آواز پہنچنی چاہیے۔"

میئر لنڈا جیفری

30--

برامپٹن پڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوارڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | [natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca)